

نماز میں ایک ہی سورت بار بار پڑھنا کیسا؟
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

الاستفتاء: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ نماز میں ایک ہی سورت کو بار بار پڑھنا جائز ہے پلیز اس کا جواب عنایت کر دیں۔

سائل: عدنان - لنڈن (انگلینڈ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي الثُّورَ وَالصَّوَابَ

بغیر کسی مجبوری کے فرائض کی دو رکعتوں میں ایک ہی سورت پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے اور نوافل کی دو رکعتوں میں ایک ہی سورت پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

جیسا کہ بہار شریعت میں مفتی امجد علی اعظمی علیہ الرحمۃ ردالمحتار کے حوالے سے فرماتے ہیں: دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورت کی تکرار مکروہ تنزیہی ہے۔

(بہار شریعت ج 1 ص 548 مطبوعہ مکتبۃ المدینہ)

اور مفتی صاحب اگلے صفحے پر فرماتے ہیں: نوافل کی دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورت کو مکرر پڑھنا یا ایک رکعت میں اسی سورت کو بار بار پڑھنا، بلا کراہت جائز ہے۔

(بہار شریعت ج 1 ص 549 مطبوعہ مکتبۃ المدینہ)

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری

Date:17 -01-2019

How is it to repeat the same sūrah in one salāh?

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

QUESTION:

What do the scholars of the Din and muftis of the Sacred Law state regarding the following issue: How is it to repeat the same Sūrah in salāh? Please kindly reply to this query.

Questioner: Adnan from London, England

ANSWER:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الجواب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

It is makrūh tanzīhī to repeat the same sūrah in the two rak'ahs of a Fard salāh without a valid reason, and there is no issue in repeating the same sūrah in two rak'ahs of nafl salāh.

Just as Muftī Amjad 'Alī A'zhamī, upon whom be mercy, states in Bahār-e-Sharīkat with reference of Radd al-Muhtār, that to repeat the same sūrah in both rak'ahs is makrūh tanzīhī.

[Bahār-e-Sharī'at, vol 1, part 3, pg 548]

The great Muftī further goes on to state on the next page that to repeat the same sūrah in both rak'ahs during nafl salāh, or to recite the same sūrah numerous times in each rak'ah is permissible without any form of dislike.

[Bahār-e-Sharī'at, vol 1, part 3, pg 549]

والله تعالى اعلم ورسوله اعلم صلى الله عليه وآله وسلم
كتبه ابو الحسن محمد قاسم ضياء قادري

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri

Translated by Haider Ali